



فعال شوٹر واقعہ

فوری حوالے کے لیے ہدایت نامہ

’فعال شوٹر‘ وہ شخص ہے جو خصوصاً آتشی ہتھیاروں کے ذریعے ایک محدود اور گنجان علاقے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہے یا ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے؛ بیشتر حالات میں، فعال شوٹر آتشی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اور اندھا دھند طریقے سے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔

- فعال شوٹروں کا حلیہ
- فعال شوٹر کے پاس ہتھیاروں کی تعداد اور قسم
- اس مقام پر ممکنہ متاثرین کی تعداد

جب قانون نافذ کرنے والے پہنچ جائیں:

- پرسکون رہیں، اور ہدایات پر عمل کریں۔
- آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں (بیگ، جیکٹیں) ہیں انہیں نیچے رکھ دیں۔
- ہاتھ اٹھا کر انگلیاں کھول لیں۔
- ہاتھوں کو نمایاں رکھیں
- افسران کی سمت تیزی سے حرکت نہ کریں جیسے حفاظت کے لیے انہیں نہ پکڑیں۔
- اشارہ کرنے، چیخنے اور چلانے سے پرہیز کریں۔ باہر نکلتے وقت سوالات نہ پوچھیں۔

911 آپریٹر کو دی جانے والی معلومات

- فعال شوٹر کا مقام۔
- فعال شوٹروں کی تعداد۔
- فعال شوٹروں کا حلیہ
- فعال شوٹر کے پاس ہتھیاروں کی تعداد اور قسم
- اس مقام پر ممکنہ متاثرین کی تعداد

سوالات اور مزید مدد کے لیے رابطہ کریں:
قانون نافذ کرنے والے مقامی حکام یا ایف بی آئی فییلڈ آفس سے:



ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ
Nebraska Ave, NW 3801
Washington, DC 20528

فعال شوٹر واقعات



جب فعال شوٹر آپ کے آس پاس ہو تو آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا لازمی ہے۔

آپ کے پاس تین راستے ہیں:

بھاگ نکلیں

- بچ نکلنے کا راستہ اور منصوبہ ذہن میں رکھیں۔ اپنا سامان پیچھے چھوڑ دیں۔
- باہر نکل جائیں چاہے دوسرے آپ کے ساتھ آنے پر راضی ہوں یا نہ ہوں۔
- ممکن ہو تو بچ نکلنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں
- زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کو اس جگہ جانے سے روکیں جہاں فعال شوٹر موجود ہو سکتا ہے
- ہاتھوں کو نمایاں رکھیں۔
- جب آپ محفوظ ہوجائیں تو 911 پر فون کریں

2 چھپ جائیں

- ایسی جگہ چھپیں جہاں فعال شوٹر آپ کو دیکھ نہ سکے۔
- دروازے کو مقفل کر دیں یا اپنے چھپنے کی جگہ کا داخلی راستہ روک دیں۔
- اپنے سیل فون کی آواز (وائبریٹ سمیت) بند کر دیں اور خاموش رہیں۔

3 مقابلہ کریں

- جب کوئی اور چارہ نہ ہو، اور آپ کی زندگی کو فوری اور یقینی طور پر خطرہ ہو تو مقابلہ کریں
- فعال شوٹر کو بے بس کرنے کی کوشش کریں
- جتنا ممکن ہو جارحیت کا مظاہرہ کریں
- چیزوں کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کریں یا فعال شوٹر پر چیزیں پھینکیں۔
- اپنی کارروائی پوری ذمہ داری سے انجام دیں . . . اسی پر آپ کی زندگی کا دارومدار ہے

موقع پر پہلے پہنچنے والے افسران زخمیوں کی مدد کے لیے نہیں رکیں گے۔ پہلے آنے والے افسران کے بعد بچاؤ ٹیموں کا انتظار کریں۔ یہ بچاؤ ٹیمیں زخمیوں کا علاج کریں گی اور انہیں وہاں سے ہٹا لے جائیں گی۔

آپ کے محفوظ مقام پر پہنچ جانے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ قانون نافذ کرنے والے آپ کو اسی جگہ اس وقت تک روکے رکھیں جب تک صورت حال قابو میں نہ آجائے، اور تمام گواہوں کی شناخت اور ان سے پوچھ تاچھ نہ ہوجائے۔ جب تک قانون نافذ کرنے والے حکام نہ کہیں آپ اس جگہ سے نہ جائیں۔